

Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

fb: <https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/> website: www.popularfrontindia.org

email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

پریس رلیز

نئی دہلی

9 دسمبر 2017

یو ایس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک غیر مہذب ملک ہے: ای ابو بکر

پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئر مین ای ابو بکر صاحب نے یو ایس کا یروشلم کو اسرائیل کی دار الحکومت قرار دینے پر یہ کہتے ہوئے سخت مذمت کی کہ اس دہشت کی سیاست نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ یو ایس ایک غیر مہذب ملک ہے۔ حقیقت میں مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم اور عالمی امن و شانتی کو خطرے میں ڈالنے کے لئے یہ ایک غیر مہذب ملک کے ساتھ دوسرے غیر مہذب ملک کی باہمی سازش ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اقوام متحدہ یہاں تک کہ یو ایس کے حلیف ممالک بھی عرب مسلم ممالک کے ساتھ ایک آواز بن کر اس ناگوار حرکت کی مذمت کی ہے جو کہ ڈولنڈ ٹرمپ کی خبطی پن کے لئے ایک چیلنج ہے۔

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یروشلم مسلمانوں کا مقدس مقام ہے۔ اس کو یہودی اور عیسائی عقائد کبھی بدل نہیں سکتے چاہے اسرائیل کے ذریعہ ہو یا یو ایس کے۔ یروشلم کا مشرقی علاقہ پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور ایک ایسے اقدام کے ذریعہ اس کو بڑپ لیا تھا جس کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ فلسطینی اپنے اس شہر میں آزاد خود مختار ریاست کا دار الحکومت چاہتا ہے جس حصہ کو اسرائیل نے بالجبر اپنے قبضہ میں کر لیا ہے۔ فلسطین کی حیثیت اقوام متحدہ کی حفاظتی انتظامات کے تحت فلسطینیوں کی مداخلت کی بنیاد پر طے کرنا چاہئے۔ یہ حقیقت ہے کہ یروشلم میں کسی بھی ملک کی سفارت خانہ موجود نہیں ہے اسی لئے اسرائیل کی اپنی دار الحکومت کے دعویٰ کی کھوکھلا پن کو ظاہر کرتا ہے۔

ای ابو بکر صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ ابھرتی ہوئی موجودہ صورت حال عرب ممالک کے درمیان اتحاد کی بنیاد ڈالے گی جو یو ایس اور اسرائیل کی تفریقی سازشی منصوبہ کے شکار ہیں۔

احترام کے ساتھ

سکرٹری آف پبلک رلیشن

پاپولر فرنٹ آف انڈیا

بیڈ کوارٹرس، نئی دہلی